

PAKISTAN DOMESTIC  
SEASON 2019-20  
14 SEP - 24 APR

CRICKET  
CHAMPIONS  
Inspiring the  
Nation



## قائد اعظم ٹرافی کے پہلے روز شائقین کرکٹ کی آمد

لاہور، 14 ستمبر 2019ء:

بابر اعظم کو ایکشن میں دیکھنے کا شوق مجاہد سلیم کو قذافی اسٹیڈیم لاہور کھینچ لایا ہے۔ مجاہد سلیم سمیت دیگر شائقین کرکٹ نے بھی اپنے اسٹار کھلاڑیوں کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں ایکشن میں دیکھنے کے لیے گراؤنڈز کا رخ کیا ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کھلاڑیوں اور شائقین کرکٹ کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے قائد اعظم ٹرافی کے پہلے راؤنڈ کے تمام وینیز پر شائقین کے لیے داخلہ مفت رکھنے کا اعلان کر چکا ہے۔

راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے مجاہد سلیم کا کہنا ہے کہ انہوں نے محض بابر اعظم کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے قذافی اسٹیڈیم کا رخ کیا ہے۔ مجاہد سلیم کا کہنا ہے کہ بابر اعظم دنیا کے بہترین بیٹسمین ہیں اور وہ ان کے ساتھ تصویر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔

مجاہد سلیم کا کہنا ہے کہ پی سی بی کی جانب سے قائد اعظم ٹرافی میں شائقین کرکٹ کے لیے گراؤنڈز کے دروازے کھولنا خوش آئند عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ٹرافی قومی ڈومیسٹک کرکٹ کا پریمیر ٹورنامنٹ ہے۔ قومی کرکٹ کو بڑے بڑے نام درحقیقت اسی ٹورنامنٹ سے ملتے ہیں۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور کے عبدالحفیظ کاردار انکلوزر کی نشستوں پر براجمان مجاہد سلیم اور ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ قومی کھلاڑیوں کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے قذافی اسٹیڈیم کا رخ کرتے رہیں گے۔

اس موقع پر قومی کرکٹر شاہین آفریدی کی سرپرائز انٹری نے مجاہد سلیم اور ان کے دوستوں کو حیران کر دیا۔ شاہین آفریدی کے انکلوزر میں آتے ہی سیلفیز بنانے کے لیے شائقین کرکٹ کا تانتا بندھ گیا۔

اس موقع پر قومی کرکٹر شاہین آفریدی نے کہا کہ قائداعظم ٹرافی میں شائقین کرکٹ کو داخلے کی اجازت دینا خوش آئند عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹورنامنٹ کھلاڑیوں اور مداحوں دونوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔

اس موقع پر کالج کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے بھی قذافی اسٹیڈیم کا رخ کیا۔ میڈیکل کے شعبے میں تعلیم حاصل کرنے والے جمشید علی سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ کالج جانے کی بجائے اسٹیڈیم کیوں آئے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ کالج میں اساتذہ کی عدم حاضری کے باعث ہم سارے طلبہ نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ دیکھنے کا فیصلہ کیا۔

یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں آلراؤنڈر انور علی نے شائقین کرکٹ سے ملاقات کی۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے قائداعظم ٹرافی کے تمام میچز میں شائقین کرکٹ کا داخلہ مفت ہوگا۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

## **ABOUT THE PCB**

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk) ●  
@therealpcb ●  
@PakistanCricketBoard ●  
@PakistanCricketOfficial ●  
@therealpcb ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4